

برائے فوری اجراء

سٹی نے پانچ سالہ انرجی اینڈ ایمیشنز مینجمنٹ پلان جاری کر دیا

پلان کا مقصد سٹی کی نئی اور موجودہ کارپوریٹ سہولت گاہوں سے کاربن کے اخراج کا مکمل خاتمہ ہے۔

برامپٹن، آن (29 اگست 2019) – سٹی آف برامپٹن نے باضابطہ طور پر اپنا انرجی اینڈ ایمیشنز مینجمنٹ پلان 2019-2024 جاری کر دیا ہے۔ جو کاربن کے اخراج کے مکمل خاتمے پر مبنی ہے۔

اس پلان کا مقصد سٹی کی نئی اور موجودہ کارپوریٹ سہولت گاہوں سے کاربن کے اخراج کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے، جس نے اگلے پانچ سالوں میں تین کلیدی اہداف حاصل کرنے ہیں: اخراج کی شدت کو کم سے کم کرنا، توانائی کی شدت کو کم سے کم کرنا اور اخراجات میں کمی کو زیادہ سے زیادہ کرنا۔

پیرس ایگریمنٹ کے تحت برامپٹن نے 2010 کو بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہوئے گرین ہاؤس گیسوں (GHG) کے اخراج میں کمی کے 2030 اور 2050 تک بالترتیب 30% اور 80% کے صوبائی اور وفاقی اہداف مختص کر لیے ہیں۔ سٹی نے 2024 تک GHG کے اخراج میں 20% کمی کا ایک عبوری ہدف بھی مختص کیا ہے۔

برامپٹن کے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کے اہداف (2019)

سالی	کمی کا ہدف، 2010 کی نسبت
2024	20%
2030	30%
2050	80%

2014 سے 2019 تک سٹی نے توانائی کی بچت، قابل تجدید توانائی، تیسرے فریقین کی فنڈنگ، توانائی کے حصول اور پانی کے دوبارہ استعمال کے لیے اخراجات کی مد میں کل \$5.8 ملین بچائے ہیں۔ اس پانچ سالہ عرصے میں سٹی نے اپنی سہولت گاہوں میں قابل تجدید توانائی کے 30 سے زائد پراجیکٹس لگائے اور توانائی کی بچت کے 50 سے زیادہ پراجیکٹس پر کام کیا ہے۔

ایک سرسبز شہر کے طور پر، برامپٹن کاربن کے اخراج سے پاک اور اعلیٰ کارکردگی والی سہولت گاہوں کے لیے وقف شدہ ہے۔

مکمل دستاویز [یہاں](#) دستیاب ہے اور اس کا خلاصہ [یہاں](#) دستیاب ہے۔

اقتباسات

"برامپٹن ایک سرسبز شہر ہے۔ ہم ایسے پراجیکٹس کے ذریعے اپنے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کو ترجیح بناتے ہیں، جو استحکامیت کو فروغ دیں۔ انرجی اینڈ ایمیشنز مینجمنٹ پلان 2019-2024 نہ صرف اخراج کے صوبائی اور وفاقی اہداف سے مطابقت رکھتا ہے – بلکہ یہ ہماری کمیونٹی کے لیے ایک صاف ستھرے اور زیادہ سرسبز و شاداب مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔
- میئر پیٹرک براؤن

برامپٹن سٹی کونسل موسمیاتی ہنگامی حالت کا اعلان کر کے 35 دیگر میونسپلٹیوں کے ساتھ ایک قابل استحکام مستقبل کے لیے ہماری اس مہم میں شامل ہو گئی ہے۔ انرجی اینڈ ایمیشنز مینجمنٹ پلان 2019-2024 برامپٹن میں پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو 2050 تک 80% تک کم کرنے کے ہمارے ہدف کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔

- ریجنل کونسلر رووینا سینٹوس، چیئر آف کمیونٹی سروسز

"سٹی توانائی کے مؤثر انتظام اور بچاؤ کے لیے پرعزم ہے۔ انرجی اینڈ ایمیشنز منیجمنٹ پلان 2019-2024 ہماری سہولت گاہوں میں کاربن کے اخراج کے مکمل خاتمے کے ہمارے مقصد کے حصول کو سامنے رکھتا ہے جس کے لیے 2024 تک اخراج میں 20% کمی لانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ یہ ایک اہم تبدیلی ہے، جسے آگے بڑھانے کے لیے ہم پرجوش ہیں۔"

- ال مینسز، قائم مقام چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca